

POFs CENTRAL LIBRARY WAH CANTT

I hereby apply for Membership of POF Central Library and for permission to borrow not more than 02 books at a time and agree to pay the replacement value of any book lost, damaged or destroyed while in my possession and to keep the rules of the Library.

Name _____ EMIS No. _____ Designation _____
(BLOCK LETTERS)

School/College _____ Deptt. _____

E-mail Address _____ Bill No. _____

Home Address _____

Contact No. _____

Signature _____

Date _____

GUARANTOR'S USE ONLY

It is certify that _____ is a reliable person who can be trusted to take care of books and other materials loaned to him / her and to return them to the Library at the proper time. I agree to cooperate with the POF Central Library in securing return of any books and materials retained beyond the period of loan. Moreover the individual bears Permanent Service Card/Pass of Sir Syed Education Society (SSES).

NOTE: This is to be CERTIFIED by a GUARANTOR who should be **PRINCIPAL/Headmaster/Head Mistress**, if the applicant is in **BPS-1 to 16** and if Applicant is in **BPS-17 & above** will be Signed/Counter Signed by **GSO-I(C/G)**.

Name _____

Designation _____

Office Address: _____

Principal's Signature _____

Tele(Off): _____

(Counter Signature with Stamp)
GSO-I (C & G)

FOR OFFICE USE ONLY

| Year | Membership No. | Card Nos. | | Initial & Date |
|------|----------------|-----------|--|----------------|
| | | | | |